



CRESCENT PUBLIC SCHOOL

DISCO ROAD JANIPUR, JAMMU

SUMMER HOLIDAY HOMEWORK

Session: 2022-23

GRADE - IX



Dear Parents,

Holidays are the time when you get a chance to connect with your child in many ways. As you are your child's first and most important teacher, you can encourage your child's love for learning by participating in educational activities at home. Working together on the activities will help your child to build confidence, learn to reason and develop skills necessary for her education. So, utilize this golden period of family reunion and strengthen your family ties with your kids and relatives.

Gear up and utilize your time in the best possible manner.

Dear Children,

Vacation is a time when you connect with your friends, family members and relatives. So, all of you — **“FIX A GOAL AND STRIVE HARD EACH DAY TO ACHIEVE IT!”**

Here are a few tips for you to follow:

1. It is mandatory to do the holiday homework of all the subjects.
2. The child will be assessed for the neat handwriting, creativity and originality.
3. There is no need of using colored/designer sheets; you have to work in **separate notebooks**.
4. All the students are required to revise the syllabus covered so far of all the subjects thoroughly.
5. Parents can act as facilitators at home but the work should be done independently by the child in his/her own handwriting.
6. Scrap book is used for pasting with their respective Holiday Homework.

I wish you have a great summer vacation full of joy and sunshine. Have a great time and don't forget that I will be waiting for you with a smile!

Feel free to reach out to me for any doubts/queries. Regards
Ms. Neeharika Pandita Class teacher (9th)

<p>English</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Read all the lessons of TA1 .Find difficult words and write their meaning. 2. Read carefully Tenses and aspects 3. Learn and write Essays on the following topics. <ol style="list-style-type: none"> A. National Festivals B. My favorite leader 4. Write the letter on following topics: <ol style="list-style-type: none"> A. Write your thrilling experience of ice-skiing to your best friend. B. Write a letter for job to chief executive officer of matrix HR service.
<p>Hindi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. मुहावरे 1 से 20 तक 2. पर्यायवाची शब्द 1 से 20 तक 3. समास विग्रह शब्द 1 से 20 तक 4. संधि विच्छेद शब्द 1 से 20 तक लिखें व याद करें। 5. निबंध लेखन :- विज्ञान के लाभ तथा हानियां 6. पत्र लेखन :- डाकिए के सही ढंग से डाक वितरण न करने पर पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र लिखें। 7. पी ए 1 और टी ए 1 का पाठ्यक्रम याद करें।
<p>Urdu</p>	<p>اردو کہاں پیدا ہوئی ماہولیاقی آلودگی غزلین :- تنہا انصاری فیض احمد فیض، شوریہ کا شہری، شہریار نظم :- بزم انجم شہری :- دنیا کی ناپائیداری فعل اور حرف کی قسمیں (مجاہرات (۳۰)، مذکر بوٹ (۳۰)، واحد جمع (۳۰) مضامین :- ۱. طالب علم کے فرائض ۲. تعلیم نسواں دوست کے نام خط پڑتے بھائی کی شادی میں شمولیت کے لئے۔</p>
<p>Social Science</p>	<p>History: Learn chapter no 2 Political science : Learn chapter no.2 and Frame 10-10 objectives from both the chapters of (pol. Sc and history TA1) Geography/Economics & Disaster Management</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revise PA-1 Chapters. 2. Learn TA-1 Chapters done in the class. 3. Frame 20 Objectives from each chapter of TA1 syllabus. 4. Do practice of Physical map of India. 5. Draw a globe and show the longitudes and reference points, heat zones and important latitudes of the earth.
<p>Science</p>	<p>Bio/Chemistry 1. Learn and understand the PA-1 & TA-1 chapters done in the class. 2. Frame 20 objectives from each chapter of TA1 Syllabus.</p> <p>Physics: Frame 20 MCQs from each chapter of TA1 Syllabus</p>
<p>Mathematics</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make a written assignment of Exercise 1.1 Exercise 1.3 Exercise 1.7 Exercise 2.4

	Exercise 2.5
General Knowledge	Learn all the chapters done. Make a chart showing the timeline of Jammu history.
Computer	Do Activity Zone from your Artificial Intelligence of pg.no 5,6,10,11
Note	<p>Do holidays homework in a separate notebook.</p> <p><u>Few Best Summer Vacation Ideas:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Wake up Early in the Morning2. Follow a fitness regime3. Indulge in New Sports or Games4. Study for Few hours5. Try to learn something new6. Spend good time with grandparents.7. Maintain Good Health and Hygiene